

## 9۔ مصباح النحو / علم النحو

ماڈل پیپر 2 سلیبس: فصل 6 تا 11 مع اسمائے متمکن (مغرب) کے اعراب کی قسمیں (تحریری امتحان 20 + شفافی امتحان 5: کل نمبر 25)

- 1۔ اسم منسوب سے کیا مراد ہے نسبت کے قواعد میں سے کوئی 2 کا مثالوں سے ذکر کریں؟
- 2۔ اسم تصغیر سے کیا مراد ہے۔ تصغیر کے قاعدوں میں سے کوئی 2 کا ذکر کریں؟
- 3۔ اسم کی عموم و خصوص کے اعتبار سے کون کون سی قسمیں ہیں نیز معرفہ کی اقسام میں سے کوئی دو کا ذکر کریں؟
- 4۔ اسم کی جنس کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی، مثالوں سے وضاحت کریں؟
- 5۔ اسم کی تعداد کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی، مثالوں سے بیان کریں؟
- 6۔ اسم غیر منصرف سے کیا مراد ہے۔ اس کے اسباب منع صرف میں سے کوئی دو کا ذکر مثالوں سے کریں؟
- 7۔ اسمائے متمکن (مغرب) کے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی۔ نیز اس میں سے تین کی وضاحت مثالوں سے کریں؟

## شفاہی امتحان - Viva

☆ مذکورہ سلیبس میں سے سوالات

## 10۔ عربی کا معلم (اول)

ماڈل پیپر 2 سلیبس: درس 10 تا 15 (تحریری امتحان 20 + شفافی امتحان 5: کل نمبر 25)

(حصہ اول)

- 1۔ تشنیہ، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کا اعراب کس طرح ہوتا ہے مثالوں سے بیان کریں؟
  - 2۔ اسم غیر منصرف کا اعراب مثالوں سے بیان کریں؟
  - 3۔ اب، اخ اور نم ضمیر واحد متکلم کے سوا کسی اسم کی طرف مضاف ہوں تو تینوں حالتوں میں انہیں کس طرح پڑھتے ہیں؟
  - 4۔ درج ذیل جملوں میں سے کوئی دس کا اردو میں ترجمہ کریں؟
- |  |  |
|--|--|
| (۱) الْبَابُ قَائِمٌ عِنْدَ الْبَابِ وَالْكَلْبُ جَالِسٌ | (۲) جَاءَ مُحَمَّدٌ مِنَ الْمَدْرَسَةِ وَذَهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ                |
| (۳) أَكَلَ يَجْبِي كَثْرَتِي وَخَالِدٌ مَائًا            | (۴) رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ذَاهِبِينَ إِلَى الْمَسْجِدِ لِصَلَاةِ الْعِيدِ |
| (۵) فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ فِي الْجَنَّةِ        | (۶) جَاءَ قَاضٍ عَادِلٌ رَأَى كَيْبًا عَلَى الْفَرَسِ  |
| (۷) فِي الْهَيْدِ جَبَلٌ عَالٍ مَعْرُوفٌ بِهَيْالِيَّةِ  | (۸) رَأَيْتُ خَلِيلًا وَسَعِيدًا اِكْتَبَا لَهَا لَا عَيْنَ فِي الْمَيْدَانِ                 |
| (۹) يَا وَلَدُ! هَلِ اسْمُكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ؟          | لَا! بَلِ اسْمِي عَبْدُ اللَّهِ أَيَّتُهَا السَّيِّدَةُ                                      |
| (۱۰) هَلْ هَذَا بَيْتُ رَفْقَاتِكَ؟                      | لَا! لَيْسَ هَذَا بَيْتُهُمْ بَلِ بَيْتُنَا  |
| (۱۱) هَلْ هِيَ أُخْتُكَ الصَّغِيرَةُ؟                    | نَعَمْ هِيَ أُخْتِي الصَّغِيرَةُ   |
| (۱۲) أَرَأَيْتَ أَحَا مُحَمَّدٍ؟                         | نَعَمْ! أَحُو مُحَمَّدٍ لِي رَفِيقٌ فِي الْمَدْرَسَةِ  |
| (۱۳) هَلْ يَدَاكَ نَظِيفَتَانِ؟                          | نَعَمْ يَدَايَ نَظِيفَتَانِ  |
| (۱۴) هَلْ ثِيَابُكُمْ نَفِيسَةٌ؟                         | نَعَمْ ثِيَابُهُمْ نَفِيسَةٌ   |
| (۱۵) بِنْتَا أَبِي الْحَسَنِ وَابْنَاهُ صَالِحُونَ       | (۱۶) أَلَيْسَ مِنْكُمْ بَرَجُلٌ رَشِيدٌ  |

5۔ نیچے لکھے ہوئے جملوں میں سے کوئی 10 کا ترجمہ کرو، ان کے صحیح اعراب لگاؤ اور وجہ بتاؤ۔

- (۱) ہما غلامان صالحان  
(۲) ہما غلاما زید  
(۳) ہم معلبون  
(۴) ہم معلبو المدرسة  
(۵) یدابنت الحسن نظیفتان ورجلاہا و سختان  
(۶) ان النساء الصالحات معلبات فی مدرسة البنات  
(۷) هذا فرس غلام ابن الوزير  
(۸) ولد البرءة العاقلة قائم  
(۹) ابن البرءة العاقل جالس أمام المعلم  
(۱۰) بنت الرجل الصالحة جميلة  
(۱۱) ارأیت الاسد الكبير فی حديقة الحيوانات؟  
(۱۲) هل هو قاض عادل؟  
(۱۳) ارأیت القاضی العادل؟  
(۱۴) هل ذهب القاضی العادل راكباً علی الناقة؟  
(۱۵) ضرب ابو خالد ابا حامد  
(۱۶) عثمان رءى زينب عند فاطمة  
(۱۷) یا عبد الكريم هل روءیت معلبى مدرستنا؟

6۔ درج ذیل جملوں میں سے کوئی 10 کا عربی میں ترجمہ کریں:

- (۱) دو گزرے ہوئے مہینے  
(۲) میں نے آج دو بہتی ہوئی نہریں دیکھیں  
(۳) دو دربان امیر کے باغ کے دروازے پر کھڑے ہیں۔  
(۴) کیا انصاف پسند قاضی کچہری میں ہے۔  
(۵) کیا تمہارے پاس سونے کی گھڑی ہے؟ نہیں! میرے پاس چاندی کی گھڑی ہے۔  
(۶) کیا یہ وزیر کے بیٹے کا گھر ہے؟ نہیں! وہ بادشاہ کے بیٹے کا گھر ہے۔  
(۷) تم نے حامد کے بھائی کو دیکھا؟ جی ہاں! حامد کا بھائی ایک اچھا لڑکا ہے۔  
(۸) کیا تمہارے معلمین مدرسہ میں بیٹھے ہیں؟ جی ہاں! ہمارے معلمین مدرسہ میں بیٹھے ہیں۔  
(۹) تیرے چھوٹے بھائی کے دونوں ہاتھ صاف ہیں؟ جی ہاں! لیکن (بیل) اس کے دونوں پاؤں میلے ہیں۔  
(۱۰) مکے سے مصر تک دراز فاصلہ ہے۔  
(۱۱) احمد کے بیٹے کے گھوڑے تیز رفتار ہیں۔  
(۱۲) شہروں کے بازاروں کی دکانیں خوب آراستہ ہیں۔

### حصہ دوم

1۔ اسماء اشارہ کی کثیر الاستعمال صورتیں کیا ہیں؟

2۔ جب اسم اشارہ بغیر مشار الیہ کے جملے میں آئے تو اس کے استعمال کی کیا صورتیں ہیں؟

3۔ کِتَابُكُمْ هَذَا اور هَذَا كِتَابُكُمْ کے معنی اور ترکیب میں کیا فرق ہے؟

4۔ ذَلِك، ذَلِكُمْ، ذَلِكُمْ، ذَلِكُمْ، ذَلِكُمْ، ذَلِكُمْ ان تمام الفاظ کے معنوی میں فرق ہے یا نہیں؟

5۔ درج ذیل جملوں میں سے 5 کا اردو میں ترجمہ کریں؟

- (۱) هَذِهِ اَمْرٌ اَدُّ حَسَنَةٌ  
(۲) كِتَابُ هَذَا الْوَلَدِ نَظِيْفٌ وَكَذَلِكَ وَجْهُهُ  
(۳) تِلْكَ الْمَتَاخِرُ حَسَنَةٌ  
(۴) هَاكَانِ الْيَدَانِ نَظِيْفَتَانِ  
(۵) هَذَا الرَّجُلُ خَالِيٌّ وَتِلْكَ الْمَرْأَةُ خَالَتِي وَهَذِهِ عَمَّتِي  
(۶) اُنْحَاثِي تَانِكَ قَامَتَانِ اِمَامَةِ الْمُعَلِّمَةِ  
(۷) تِلْكَ الْبُيُوتُ لِذِيْنِكَ الرَّجُلِيْنَ  
(۸) فَذَانِكَ بُرْهَاتَانِ مِنْ رَبِّكَ اِلَى فِرْعَوْنَ

6۔ درج ذیل میں سے کوئی 5 جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں۔

- (۱) یہ طبیب عالم ہے  
(۲) میرا یہ دوست دولت مند ہے  
(۳) دوست (جمع) دولت مند ہیں

- (۴) بادشاہ کا یہ لڑکا سخی ہے  
(۵) یہ دونوں بھائی ہیں  
(۶) وہ اونٹنی خوبصورت ہے  
(۷) یہ خوبصورت لڑکانیک ہے  
(۸) اے عبداللہ! کیا یہ تمہارا لڑکا ہے؟  
(۹) وہ لڑکے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہیں  
(۱۰) یہ (ایک) اچھا آدمی ہے اور وہ دونوں بدکار ہیں  
(۱۱) یہ لڑکی نیک ہے اور ویسی ہی اس کی ماں

## حصہ سوم

1۔ اسماء استفہام کون کون سے لفظ ہیں اور حروف استفہام کون کون سے اور دونوں میں فرق کیا ہے؟

2۔ کلمہ کتنے قسم کا ہے اور ہر قسم کے بعد اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟

3۔ درج ذیل عبارت کے اعراب لگاؤ:

لین هذه الناقة الفارحة ومن راكب عليها؛ هل هو عمك؛ واية مرة قائمة عند باب دارك وماذا؛ ومن عن يمينها؛ هل هو ولدها الكبير؛ كم لك من الناقات يا صالح وكم لك من البقرات؛ كم شاة عندك يا حامد وكم بقرة؛ هل ارسل محمود مكتوبا الى ابية؛ نعم ياسيدي كم مكتوب ارسل محمود الى ابية لكن ماجاء جواب من عنده۔

4۔ درج ذیل جملوں میں سے کوئی 10 کا اردو میں ترجمہ کریں۔

- (۱) مَا هَذَا؟ هَذَا قَلَمُ الرَّصَاصِ  
(۲) وَمَا ذَلِكَ؟ ذَلِكَ قَلَمُ الْحَبْرِ  
(۳) وَمَا ذَا فِي الدَّوَاةِ؟ فِي الدَّوَاةِ حَبْرٌ  
(۴) وَمَنْ تِلْكَ الْبِنْتُ بَيْنَهُمَا؟ تِلْكَ أُخْتِي الصَّغِيرَةُ زُبَيْدَةُ  
(۵) أَيْ رَجُلٍ جَالِسٍ خَلْفَكَ؟ ذَاكَ أَخِي الْكَبِيرُ حَامِدٌ  
(۶) مَنْ هَؤُلَاءِ النَّسَاءُ؟ هُنَّ مُعَلِّمَاتٌ فِي مَدْرَسَةِ الْبَنَاتِ  
(۷) مَتَى ذَهَبَ؟ ذَهَبَ قَبْلَ سَاعَتَيْنِ  
(۸) لِمَنْ هَذَا الْكِتَابُ؟ هَذَا هُوَ كِتَابِي  
(۹) مَا اسْمُ أَبِيكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ؟ اسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ  
(۱۰) مَنْ أَيْنَ أَنْتُمْ؟ نَحْنُ مِنْ مَكَّةَ  
(۱۱) كَمْ وَلَدًا لَكَ يَا خَالِدُ؟ لِي خَمْسَةُ أَوْلَادٍ يَا سَيِّدِي  
(۱۲) كَمْ بِنْتًا حَاضِرَةً فِي الْمَدْرَسَةِ؟ يَا سَيِّدِي! خَمْسُونَ بِنْتًا حَاضِرَةً الْيَوْمَ فِي الْمَدْرَسَةِ  
(۱۳) بِكُمْ هَذِهِ الْبَقَرَةُ السَّيْنَةُ؟ هَذِهِ الْبَقَرَةُ بَعِشْرَتَيْنِ رُبَيْيَّةَ  
(۱۴) قَالَ أَيْ لَكَ هَذَا؟ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  
(۱۵) مَتَى نَصَرَ اللَّهُ؟ أَلَا إِنَّ نَصَرَ اللَّهُ قَرِيبٌ

5۔ ذیل کے سوالات میں سے کوئی دس کے جوابات پڑھے ہوئے الفاظ کی مدد سے لکھو۔

- (۱) مَا هَذَا؟ (۲) مَا هَذِهِ؟ (۳) مَا ذَلِكَ؟  
(۴) مَا تِلْكَ؟ (۵) مَنْ هَذَا؟ (۶) مَنْ هَذَانِ؟  
(۷) مَنْ هَؤُلَاءِ؟ (۸) أَيْسَ اسْمُكَ؟ (۹) أَيْنَ أَحْوَاكُ يَا أَحْمَدُ؟  
(۱۰) مَا اسْمُ أَخِيكَ؟ (۱۱) مَنْ ضَرَبَ أَحَاكَ؟ (۱۲) مَنْ ضَرَبَ أَخِي؟  
(۱۳) كَمْ لَكَ مِنَ الْإِخْوَانِ؟ (۱۴) بِنْتُكَ مَنْ هَذِهِ؟ (۱۵) أَيْنَ أَبُوهَا؟

(۱۸) آيَةُ النِّسَاءِ جَالِسَةً عِنْدَ أُمِّكَ؟

(۱۷) أَرَأَيْتَ بَيْتَ أَبِيهَا؟

(۱۶) أَرَأَيْتَ أَبَاهَا؟

(۲۰) مَتَى ذَهَبَ أَبُوكَ إِلَى مَتْبَأِي؟

(۱۹) كَيْفَ هَذَا الْكِتَابُ؟ سَهْلٌ أَمْ صَعْبٌ؟

6۔ درج ذیل جملوں کی ترکیب بیان کریں:

۲۔ عَلِيٌّ رَجُلٌ سَخِيٌّ

۱۔ حَامِدٌ جَالِسٌ

۳۔ هَلْ كَتَبَ زَيْدٌ مَكْتُوبًا إِلَى خَالِي؟

۳۔ مَنْ جَالِسٌ عَلَى الْكُرْسِيِّ؟

7۔ درج ذیل جملوں میں سے کوئی 5 کا عربی میں ترجمہ کریں؟

جناب (یا سیدی) میں حامد ہوں

(۱) تم کون ہو؟

وہ میرے بھائی کی بیوی ہے

(۲) تمہارے سامنے کونسی عورت کھڑی ہے؟

وہاں پانچ آدمی کھڑے ہیں

(۳) وہاں کتنے آدمی کھڑے ہیں؟

یہ کتاب پانچ روپے کی ہے

(۴) یہ کتاب کتنے کی ہے؟

جناب میرے دو بھائی ہیں

(۵) خالد تمہارے کتنے بھائی ہیں؟

یہ میرے ماموں کا کتاب ہے

(۶) یہ چھوٹا کتا کس کا ہے؟

جناب! ہم مدرسے جا رہے ہیں

(۷) ابھی تم کہاں جا رہے ہو؟

وہ ایک گھنٹہ قبل گیا

(۸) تیرا بھائی کب گیا؟

(حصہ چہارم)

1۔ لفظ کا مادہ کسے کہتے ہیں اور افعال مجرد میں کون سا صیغہ محض مادے کے حروف بنتا ہے؟

2۔ فاعل کی وحدت و جمع و تذكیر و تانیث سے فعل میں کیا تغیر ہوگا؟

3۔ فعل ثلاثی کا ماضی کس وزن پر آتا ہے اور مضارع کے کیا اوزان ہیں؟

4۔ اردو میں ترجمہ کریں:

هُوَ (بِئِنَّ الْقُرْآنُ) قُرْءٌ - قُرْءُ الْقُرْآنِ

هُوَ (بِئِنَّ رَشِيْدًا) قَرَاءَ الْقُرْآنِ - قَرَاءَ رَشِيْدًا الْقُرْآنِ

هُمَا (بِئِنَّ رَجُلَانِ) طَلِبَانِ

هُمَا (بِئِنَّ رَجُلَانِ) قَرَاءَ كِتَابًا

هُمْ (بِئِنَّ الرِّجَالَ) طَلِبُوا

هُمْ (بِئِنَّ الرِّجَالَ) قَرَأُوا وَالْقُرْآنِ

هِيَ (بِئِنَّ بِنْتًا) طَلَبَتْ

هِيَ (بِئِنَّ بِنْتًا) كَتَبَتْ مَكْتُوبًا

هُمَا (بِئِنَّ بِنْتَانِ) طَلَبَتَا

هُمَا (بِئِنَّ بِنْتَانِ) كَتَبَتَا مَكْتُوبَتَيْنِ

هُنَّ (بِئِنَّ الْبَنَاتِ) طَلَبْنَ

هُنَّ (بِئِنَّ الْبَنَاتِ) كَتَبْنَ مَكَاتِبَ

أَنْتَ بُعِثْتَ إِلَى لَاهُورَ

أَنْتَ أَكَلْتَ تَفَّاحًا

أَنْتُمْ بُعِثْتُمْ إِلَى كَرَأَشِي (كراچی)

أَنْتُمْ أَكَلْتُمْ مَائِنًا

أَنْتُمْ بُعِثْتُمْ إِلَى مَكَّةَ

أَنْتُمْ أَكَلْتُمْ بَطِيخًا

أَنْتِ بُعِثْتِ إِلَى الْمَدْرَسَةِ

أَنْتِ طَلَبْتِ الْعِلْمَ

أَنْتُمْ بُعِثْتُمْ إِلَى الْبَيْتِ

أَنْتُمْ طَلَبْتُمْ الْعِلْمَ

أَنْتُمْ بُعِثْتُمْ إِلَى الْمُسْتَشْفَى

أَنْتُمْ طَلَبْتُمْ الْعِلْمَ

آتَا شَرِبْتُ مَاءً  
نَحْنُ شَرِبْنَا لَبَنًا  
آتَا بُعِثْتُ إِلَى دِهْلِي  
نَحْنُ بُعِثْنَا إِلَى كَلِكْتِه

5۔ کوئی 10 جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں:

- (۱) یارشید! هل قرأت القرآن؟  
(۲) هل كتبت المکتوب الى ابيك؟  
(۳) متى طلعت الشمس؟  
(۴) هل غرب القمر؟  
(۵) ماذا اكلت اليوم يا مريم؟  
(۶) الى أين بعث ابوك؟  
(۷) من دخل الدار؟  
(۸) ومن خرج منها؟  
(۹) من ضرب أخوتك؟  
(۱۰) هل فتح باب المدرسة؟  
(۱۱) لم فتح محمد ورشيد؟  
(۱۲) كم ولدنا فتح في الامتحان السنوي؟  
(۱۳) هل فهمتم قولنا؟  
(۱۴) لم ما فهمتم كلامي؟  
(۱۵) لم طلبت في الديوان؟  
(۱۶) لم بعثت الى المستشفى يا אחتي؟
- نعم يا سيدي قرات جزءاً منه  
نعم كتبت الباريحة  
ما طلعت الشمس الى الان  
نعم غرب القمر قبل ساعة  
يا سيدي اكلت الخبز مع اللبن  
بعث ابي الى الله اباد  
هي احي دخلت الدار  
هنا اخواني قد خرجوا من الدار  
ضربتهم احي  
لا ما فتح الى الان  
لان هنا نجحنا في الامتحان  
نجح خمسون ولدا في هذا العام  
ما فهمنا قولكم  
لان لسانكم هندي  
طلبت للشهادة  
بعثت للتبريض (لخدمته المرطبي)

6۔ درج ذیل قرآنی آیات میں سے کوئی 5 کا اردو میں ترجمہ کریں:

- (۱) كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله  
(۲) من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا  
(۳) كم تر كوا من جنات وعيون وذرورع ومقام كريم  
(۴) للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون  
(۵) فمن شرب منه فليس مبيئ  
(۶) فشربوها منه الا قليلا منهم  
(۷) كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم  
(۸) واذا الهوء وذكه سئلتك باي ذنب قتلت؟

7۔ کوئی 8 جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں:

(۱) حامد نے کھانا کھایا؟  
نہیں اب تک اس نے کھانا نہیں کھایا

- (۲) تم (مذکر) نے پانی پیا؟  
 (۳) تم نے آج کیا کھایا؟  
 (۴) تیری بہن مدرسہ گئی؟  
 (۵) آفتاب کب طلوع ہوا؟  
 (۶) مسجد میں کون داخل ہوا؟  
 (۷) وہ کون گھر سے نکلا؟  
 (۸) تم (مؤنث) نے میری بات سمجھی؟  
 (۹) تم (جمع مؤنث) نے میری بات کیوں نہیں سمجھی؟  
 (۱۰) کیا کوئی شیر قتل کیا گیا اے خالد؟  
 (۱۱) شیر کو کس نے مارا (قتل کیا)  
 (۱۲) تمہارا خادم کہاں بھیجا گیا؟
- جی ہاں میں نے کھانا کھایا اور پانی پیا  
 میں نے روٹی اور گوشت کھایا  
 ہاں ایک گھنٹہ پیشتر وہ مدرسہ گئی  
 آفتاب ابھی طلوع ہوا  
 وہ مدرسہ کے معلمین ہیں  
 وہ میرا چھوٹا بھائی ہے  
 ہم نے تمہاری بات نہیں سمجھی  
 اس لیے کہ تمہاری زبان عربی ہے  
 جی ہاں ایک بڑا شیر قتل کیا گیا  
 جناب! شیر کو میں نے مارا  
 وہ بازار بھیجا گیا

۸۔ کوئی 10 جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں:

- (۱) هَلْ تَفْهَمُ اللِّسَانَ الْعَرَبِيَّ؟  
 (۲) مَنْ يَكْتُبُ هَذَا الْكِتَابَ؟  
 (۳) مَا شَاءَ اللَّهُ! هِيَ تَكْتُبُ جَيِّدًا وَأَنْتَ لَا تَكْتُبُ  
 (۴) إِلَى آيِنَ تَذْهَبُ يَا أَحْمَدُ؟  
 (۵) مَتَى تَرْجِعُ مِنَ السُّوقِ  
 (۶) يَا أَوْلَادَ! أَلَيْ كِتَابٍ تَقْرَءُونَ؟  
 (۷) هَلْ تَشْرَبُونَ الشَّايَ  
 (۸) هَلْ بُعِثْتُمْ إِلَى الْحَاكِمِ الْيَوْمَ  
 (۹) مَنْ طَلَبَكُمْ إِلَى بَيْتِي (مبئی)؟  
 (۱۰) هَلْ تَعْلَمُونَ مَنْ خَلَقَكُمْ وَوَالِدِيكُمْ؟  
 (۱۱) مَاذَا تَطْلِبِينَ مِنِّي يَا عَائِشَةُ؟  
 (۱۲) هَلْ رَأَيْتُمُوْنَا أَمْسٍ فِي الْجَامِعِ؟  
 (۱۳) هَلْ تَسْمَعُ أَحْبَابَ الْحَرْبِ فِي الرَّادِيُو؟  
 (۱۴) وَهَلْ تَقْرَأُ الْحِجْرَانِ؟  
 (۱۵) مَاذَا تَعْلَمُ فِي هَذِهِ الْحَرْبِ الْعَظِيمَةِ؟
- تَعْمَ أَفْهَمُهُ قَلِيلًا  
 تَكْتُبُهُ، أُحِبُّ مَرِيْمَ  
 يَا سَيِّدِي! أَنَا لَا أَكْتُبُ لِأَنَّ فِي يَدَيَّ وَجْعَ  
 أَنَا أَذْهَبُ إِلَى السُّوقِ  
 سَأَرْجِعُ مِنْهَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ  
 يَا سَيِّدِي نَا نَقْرَأُ تَسْهِيْلَ الْأَدَبِ  
 نَحْنُ لَا نَشْرَبُ الشَّايَ وَلَا الْقَهْوَةَ  
 لَا! بَلْ نُبْعَثُ عَدَا بَعْدَ الظُّهْرِ  
 طَلَبْنَا أَبُوْنَا إِلَى بَيْتِي  
 اللَّهُ خَلَقَنِي وَخَلَقَ وَالِدِي  
 إِنَّمَا أَطْلُبُ مِنْكُمْ كِتَابًا يَنْفَعُنِي  
 لَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُمَا هُنَاكَ  
 إِنِّي وَاللَّهِ أَسْمَعُ صَبَاحًا وَمَسَاءً  
 كَيْفَ لَا أَقْرَأُهَا وَهِيَ مِنْ أَحْمَرَ الْأُمُورِ  
 مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ شَرِّهَا. فَإِنَّهَا نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي أَخَذَتِ الشَّرْقَ وَالْعَرْبَ

۹۔ درج ذیل قرآنی آیات میں سے کوئی 5 کا اردو میں ترجمہ کریں:

- (۱) وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ  
 (۲) لِي عَمَلِيَّ وَلكُمْ عَمَلِكُمْ وَأَنْتُمْ بِرِيئُونَ مِنَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٌّ مِنْهَا تَعْمَلُونَ  
 (۳) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  
 (۴) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

- (۵) الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا  
(۶) وَمَالِي لَا أَعْبُدُ إِلَّا ذِي فِطْرَتِي  
(۷) أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ  
(۸) قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا الْكَفَرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَتَعْبُدُ مَا عَبَدْتُمْ  
وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَإِلَىٰ دِينِ (=دینی)  
(۹) لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ.

10- عربی کے درج ذیل خط کا ترجمہ کریں:

أَنَا أَرْسَلْتُ الْيَوْمَ مَكْتُوبًا إِلَىٰ أَخِي الصَّغِيرِ وَكَتَبْتُ فِيهِ:

أَيُّهَا الْأَخُ الْعَزِيزُ - السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

أَنْتُمْ بِجَمِيعِكُمْ تَفْرَحُونَ فَرِحًا شَدِيدًا لِمَا تَعْلَمُونَ أَنِّي قَرَأْتُ وَرَفَقَائِي الْجُزءَ الْأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ تَسْهِيلِ الْأَدَبِ فِي مُدَّةٍ قَلِيلَةٍ وَالآنَ نَفَهُمْ قَلِيلًا مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ وَلِهَذَا أَكْتُبُ الْيَوْمَ مَكْتُوبًا إِلَىٰ الْعَرَبِيِّ. وَسَنَبْدًا (إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى) بَعْدَ يَوْمَيْنِ الْجُزءَ الثَّانِي مِنْ هَذَا الْكِتَابِ. يَا أَخِي! لِمَ لَا تَقْرَأُ هَذَا الْكِتَابَ؟ فَإِنَّهُ سَهْلٌ جِدًّا. لَيْسَ بِصَعْبٍ مِثْلَ الْكُتُبِ الرَّائِجَةِ فِي الْمَدَارِسِ الْعَرَبِيَّةِ الْقَدِيمَةِ. نَحْنُ قَرَأْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ سَهْلًا. وَسَتَعْلَمُ أَنْتَ إِذَا بَدَأْتَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ الْعَرَبِيَّ لَيْسَ بِصَعْبٍ كَمَا يَحْسِبُهُ الظَّالِمُونَ. أَظَلَبَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الْعَافِيَةَ وَالْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ لِي وَلكُمْ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ. آمِينَ - وَالسَّلَامُ طَالِبُ خَيْرِكَ! عَبْدُ الْعَلِيِّ

11- کوئی سے 5 جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو:

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| (۱) تم مدرسہ میں کیا پڑھتے ہو؟      | جناب میں تسہیل الادب پڑھتا ہوں          |
| (۲) تم میرے بھائی کو پہنچاتے ہو؟    | جی ہاں! میں اس کو پہنچاتا ہوں           |
| (۳) آج باغ کا دروازہ کھولا جائے گا؟ | آج باغ کا دروازہ نہیں کھولا جائیگا      |
| (۴) دربان کہاں گیا؟                 | میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا؟             |
| (۵) کیا آج تفریح کے لیے جائے گا؟    | نہیں بھائی! میں آج مدرسہ جاؤں گا۔       |
| (۶) محمود نے کھانا کھایا؟           | اب تک نہیں کھایا وہ اب کھائے گا         |
| (۷) تم کس کی پوجا کرتے ہو؟          | ہم اللہ کے سوال کسی کو نہیں پوجتے۔      |
| (۸) تم ہم سے کیا مانگتے ہو؟         | ہم تو صرف ایک کتاب مانگتے ہیں۔          |
| (۹) ہم سے کون سی کتاب طلب کرتے ہو؟  | ہم آپ سے کتاب سیرۃ النبی طلب کرتے ہیں۔  |
| (۱۰) کیا تم ہر روز قرآن پڑھتے ہو؟   | ہم ہر روز اس میں سے ایک پارہ پڑھتے ہیں۔ |

### شفاہی امتحان - Viva

- (1) عربی کا معلم حصہ اول کے 10 تا 15 دروس میں سے کوئی 9 قواعد پوچھے جائیں گے۔  
(2) عربی سے اردو ترجمہ کرنے کے لیے 8 جملے۔  
(3) اردو سے عربی ترجمہ کرنے کے لیے 8 جملے۔

## 11- ابواب الصرف

## سلیبس ماڈل پیپر 2:

- ☆ ثلاثی مجرد صحیح کے 6 ابواب کی صرف صغیریں اور صرف کبیریں مع مصادر
- ۱- فَعَلٌ يَفْعُلُ جیسے اَلطَّرِبُ (مارنا) مصدر سے صَرَبٌ يَصْرِبُ  
۲- فَعَلٌ يَفْعُلُ جیسے اَلنَّضْرُ (مدد کرنا) مصدر سے نَصْرٌ يَنْصُرُ  
۳- فَعَلٌ يَفْعُلُ جیسے اَلْعِلْمُ (جاننا) مصدر سے عَلِمَ يَعْلَمُ  
۴- فَعَلٌ يَفْعُلُ جیسے اَلْمَنْعُ (منع کرنا) مصدر سے مَنَعَ يَمْنَعُ  
۵- فَعَلٌ يَفْعُلُ جیسے اَلْحَسْبُ (گمان کرنا) مصدر سے حَسِبَ يَحْسِبُ  
۶- فَعَلٌ يَفْعُلُ جیسے اَلشَّرْفُ (بزرگ ہونا) مصدر سے شَرَّفَ يَشْرَفُ

## 1- مصادر از باب فَعَلٌ يَفْعُلُ جیسے صَرَبٌ يَصْرِبُ:

- (۱) اَلْعَلْبُ (غلبہ کرنا) غَلَبَ يَغْلِبُ  
(۲) اَلْكَذِبُ (جھوٹ بولنا) كَذَبَ يَكْذِبُ  
(۳) اَلْكَسْبُ (کمانا) كَسَبَ يَكْسِبُ  
(۴) اَلْقَصْدُ (ارادہ کرنا) قَصَدَ يَقْصِدُ  
(۵) اَلْمَغْفَرَةُ (بخشنا) غَفَرَ يَغْفِرُ  
(۶) اَلْكِسْفُ (توڑنا) كَسَرَ يَكْسِرُ  
(۷) اَلجُلُوسُ (بیٹھنا) جَلَسَ يَجْلِسُ  
(۸) اَلصَّبْرُ (صبر کرنا) صَبَرَ يَصْبِرُ  
(۹) اَلْحُبْسُ (روکنا) حَبَسَ يَحْبِسُ  
(۱۰) اَلرُّجُوعُ (لوٹنا) رَجَعَ يَرْجِعُ  
(۱۱) اَلضَّرْفُ (پھیرنا-پرکھنا) ضَرَفَ يَضْرِفُ  
(۱۲) اَلْمَعْرِفَةُ (پہچاننا) عَرَفَ يَعْرِفُ  
(۱۳) اَلْكَشْفُ (کھولنا) كَشَفَ يَكْشِفُ  
(۱۴) اَلعَصْرُ (نچوڑنا) عَصَرَ يَعْصِرُ  
(۱۵) اَلْعَزْلُ (کاتنا) عَزَلَ يَعْزِلُ  
(۱۶) اَلْحُلُقُ (مونڈنا) حَلَقَ يَحْلِقُ  
(۱۷) اَلسَّرِقَةُ (چراننا) سَرَقَ يَسْرِقُ  
(۱۸) اَلهَلَاكُ (تباہ ہونا، مرجانا) هَلَكَ يَهْلِكُ  
(۱۹) اَلتُّزُّوُلُ (اترنا) تَزَلَّ يَتَزَلُّ  
(۲۰) اَلْحَمْلُ (اٹھانا) حَمَلَ يَحْمِلُ  
(۲۱) اَلْعَدْلُ (انصاف کرنا) عَدَلَ يَعْدِلُ  
(۲۲) اَلغُسْلُ وَ اَلغُسْلُ (دھونا) غَسَلَ يَغْسِلُ  
(۲۳) اَلظُّلْمُ (ظلم کرنا) ظَلَمَ يَظْلِمُ  
(۲۴) اَلْفَضْلُ (جدا کرنا) فَصَلَ يَفْصِلُ  
(۲۵) اَلْعَلْبُ (غلبہ کرنا) غَلَبَ يَغْلِبُ  
(۲۶) اَلجُلُوسُ (بیٹھنا) جَلَسَ يَجْلِسُ

## 2- مصادر از باب فَعَلٌ يَفْعُلُ جیسے نَصْرٌ يَنْصُرُ:

- (۱) اَلخُرُوجُ (نکلنا) خَرَجَ يَخْرُجُ  
(۲) اَلدُّخُولُ (داخل ہونا) دَخَلَ يَدْخُلُ  
(۳) اَلطَّلَبُ (ڈھونڈنا) طَلَبَ يَطْلُبُ  
(۴) اَلسَّتْوُ (چھپانا) سَتَوَّ يَسْتُوُ  
(۵) اَلهَرَبُ (بھگانا) هَرَبَ يَهْرِبُ  
(۶) اَلحَرْبُ (کھیتی کرنا) حَرَبَتْ يَحْرِبُ  
(۷) اَلسُّكُوتُ (چپ رہنا) سَكَتَ يَسْكُتُ  
(۸) اَلْمَطَرُ (مینہ برسنا) مَطَرَ يَمْطَرُ  
(۹) اَلخُلُودُ (ہمیشہ رہنا) خَلَدَ يَخْلُدُ  
(۱۰) اَلسَّقُوطُ (گر پڑنا) سَقَطَ يَسْقُطُ  
(۱۱) اَللَّمْسُ (چھونا) لَمَسَ يَلْمَسُ  
(۱۲) اَلنَّبْذُ (پھینکا) نَبَذَ يَنْبِذُ  
(۱۳) اَلجَبَلُ (بلوغت پہنچنا) جَبَلَ يَجْبُلُ  
(۱۴) اَلالْفَتْلُ (بانٹنا) فَتَلَ يَفْتُلُ  
(۱۵) اَلنَّسْجُ (بنا) نَسَجَ يَنْسِجُ  
(۱۶) اَلرُّقُودُ (سوننا) رَقَدَ يَرْقُدُ  
(۱۷) اَلنَّفْعُ (پھوکنا) نَفَعَ يَنْفَعُ  
(۱۸) اَلنَّقْضُ (توڑنا) نَقَضَ يَنْقُضُ  
(۱۹) اَلتُّرْكُ (چھوڑنا) تَرَكَ يَتْرُكُ  
(۲۰) اَلعَرَزُ (چھوڑنا) عَرَزَ يَعْزِرُ  
(۲۱) اَلنَّشْرُ (پھیلانا) نَشَرَ يَنْشُرُ  
(۲۲) اَلمَكْتُ (ٹھہرنا، دیر کرنا) مَكَتَ يَمْكُتُ  
(۲۳) اَلدَّلْكُ (ملنا) دَلَكَ يَدْلِكُ  
(۲۴) اَلرُّكُضُ (ٹھوکر لگانا) رَكَضَ يَرْكُضُ  
(۲۵) اَلعِبَادَةُ (پوجنا) عَبَدَ يَعْبُدُ  
(۲۶) اَلقَتْلُ (مار ڈالنا) قَتَلَ يَقْتُلُ

## 3- مصادر از باب فَعَلٌ يَفْعُلُ جیسے عَلِمَ يَعْلَمُ:

- (۱) اَلرُّكُوبُ (سوار ہونا) رَكَبَ يَرْكَبُ  
(۲) اَلشَّرْبُ (پینا) شَرَبَ يَشْرِبُ  
(۳) اَللَّبْسُ (ٹھہرنا) لَبَسَ يَلْبَسُ  
(۴) اَلرُّكُوبُ (سوار ہونا) رَكَبَ يَرْكَبُ  
(۵) اَلسَّعَادَةُ (نیکجنت ہونا) سَعَدَ يَسْعُدُ  
(۶) اَللُّغُوقُ (چاٹنا) لَغِقَ يَلْغِقُ  
(۷) اَلحَمْدُ (تعریف کرنا) حَمَدَ يَحْمَدُ



(۹) الْعَطَشُ (پاسا ہونا) عَطَشٌ يَعْطَشُ	(۸) اللَّبْسُ (پہنا) لَبَسَ يَلْبَسُ	(۷) الشَّهَادَةُ (گواہی دینا) شَهِدَ يَشْهَدُ
(۱۲) الْجَهْلُ (نہ جانا) جَهَلَ يَجْهَلُ	(۱۱) الضَّحْكُ (ہنسا) ضَحِكَ يَضْحَكُ	(۱۰) الْحِفْظُ (نگاہ رکھنا) حَفِظَ يَحْفَظُ
(۱۵) الْقُدُومُ (آنا) قَدِمَ يَقْدِمُ	(۱۳) الْفَهْمُ (سمجھنا) فَهِمَ يَفْهَمُ	(۱۳) الشَّهَادَةُ (گواہی دینا) شَهِدَ يَشْهَدُ
	(۱۴) السَّمْعُ (سننا) سَمِعَ يَسْمَعُ	(۱۶) اللَّحْوُ (ملنا، لاحق ہونا) لَحِيَ يَلْحَى

4- مصادر از باب فَعَلَ يَفْعَلُ جیسے مَنَعَ يَمْنَعُ:

(۳) الْجَزْحُ (زخمی کرنا) جَرَحَ يَجْرَحُ	(۲) الدَّهَابُ (جانا) ذَهَبَ يَذْهَبُ	(۱) الْفَتْحُ (کھولنا) فَتَحَ يَفْتَحُ
(۶) الْهُبُؤُ (اٹھنا) هَبَّ يَهْبُؤُ	(۵) الْجُحُودُ (انکار کرنا) جَحَدَ يَجْحَدُ	(۳) الْمَدْحُ (تعریف کرنا) مَدَحَ يَمْدَحُ
(۹) الرَّزْعُ (کھیت کرنا) رَزَعَ يَرْزَعُ	(۸) الدَّفْعُ (دور کرنا) دَفَعَ يَدْفَعُ	(۷) الرَّفْعُ (اٹھانا) رَفَعَ يَرْفَعُ
(۱۲) الْجَعْلُ (کرنا۔ بنانا) جَعَلَ يَجْعَلُ	(۱۱) الْمَنَعُ (روکنا) مَنَعَ يَمْنَعُ	(۱۰) الْقَطْعُ (کاٹنا) قَطَعَ يَقْطَعُ
(۱۵) الطَّحْنُ (پسینا) طَحَنَ يَطْحَنُ	(۱۳) الْمَضْغُ (چبانا) مَضَغَ يَمْضَغُ	(۱۳) الطَّبْخُ (پکانا) طَبَخَ يَطْبَخُ
(۱۸) السِّبَاخَةُ (تیرنا) سَبَخَ يَسْبِخُ	(۱۴) الصَّرْحَةُ (چیننا۔ چلانا) صَرَحَ يَصْرَحُ	(۱۶) السَّحْقُ (گھسنا) سَحَقَ يَسْحَقُ
(۲۱) السَّلْخُ (کھال کھینچنا) سَلَخَ يَسْلَخُ	(۲۰) الْقَلْعُ (اکھیرنا) قَلَعَ يَقْلَعُ	(۱۹) الْخَلْعُ (نکانا خلعت دینا) خَلَعَ يَخْلَعُ
	(۲۳) الرَّهْنُ (رہن رکھنا) رَهَنَ يَرْهَنُ	(۲۲) الصَّبْغُ (رنگنا) صَبَغَ يَصْبِغُ

5- الْتَعَبَةُ (آسودہ ہونا) نَعِمَ يَنْعَمُ مصدر از باب فَعَلَ يَفْعَلُ جیسے حَسِبَ يَحْسِبُ۔

6- مصادر از باب فَعَلَ يَفْعَلُ جیسے شَرَفَ يَشْرَفُ:

(۳) الْبَصَارَةُ (بہنا ہونا) بَصَرَ يَبْصُرُ	(۲) الْبَعْدُ (نزدیک ہونا) بَعَدَ يَبْعُدُ	(۱) الْقَرْبُ (نزدیک ہونا) قَرَبَ يَقْرُبُ
(۶) الشَّرْفَةُ (بزرگ ہونا) شَرَفَ يَشْرَفُ	(۵) الصَّعُوبَةُ (مشکل ہونا) صَعِبَ يَصْعَبُ	(۳) الْكَثْرَةُ (زیادہ ہونا) كَثُرَ يَكْثُرُ
(۸) اللَّطْفُ (پاکیزہ ہونا) لَطَفَ يَلْطَفُ	(۷) الْكِرَامَةُ (بزرگ ہونا) كَرُمَ يَكْرُمُ	(۷) الْعِظْمَةُ (بزرگ ہونا) عَظُمَ يَعْظُمُ
	(۱۰) الْكَثْرَةُ (بہت ہونا) كَثُرَ يَكْثُرُ	(۹) الْبَعْدُ (دور ہونا) بَعَدَ يَبْعُدُ

## ماڈل پیپر نمبر 2 (تحریری امتحان 20 + شفاهی امتحان 5: کل نمبر 25)

### حصہ اول

- درج ذیل مصادر میں سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعَلُ کے وزن پر کسی ایک مصدر سے صرف صغیر کی گردان تحریر کریں:
- (۱) الْعَلْبُ (۲) الْكِدْبُ (۳) الْقَصْدُ (۴) الْبَغْفِرَةُ (۵) الْكَسْرُ
- الْجُلُوسُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل ماضی معلوم (جَلَسَ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
  - يَا الصَّبْرُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل ماضی مجہول (صَبِرَ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
  - الْحَبْسُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل مضارع معلوم (يَحْبِسُ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
  - يَا الرَّجُوعُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل مضارع مجہول (يُرْجَعُ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
  - الطَّرْفُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر اسم فاعل (صَارَفَ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
  - يَا الْبَعْرَةَ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر اسم مفعول (مَعْرُوفٌ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
  - الْكَشْفُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل جہد معلوم (لَمْ يَكْشِفْ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
  - يَا الْعَضْرُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل جہد مجہول (لَمْ يُعْضَرْ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

- 6- اَلْعَزْلُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نفی معلوم (لَا يَعْزِلُ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- يَا اَلْمُخَلِّقُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نفی مجہول (لَا يُخَلِّقُ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 7- اَلتَّحْرِيْقُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نفی معلوم مؤکد بالن ناصبہ (لَنْ يَحْرِقَ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- يَا اَللَّهِ قَهْ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نفی مجہول مؤکد بالن ناصبہ (لَنْ يُسْرِقَ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 8- اَلْهَلَاكُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل امر حاضر معلوم و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (اِهْلِكْ - اِهْلِكَنَّ - اِهْلِكُنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- يَا اَلْمُحْمَلُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل امر حاضر مجہول و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (لِيُحْمَلْ - لِيُحْمَلَنَّ - لِيُحْمَلُنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 9- اَلْعَدْلُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل امر غائب مجہول و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (لِيَعْدِلَ - لِيَعْدِلَنَّ - لِيَعْدِلُنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- يَا اَللَّوْؤُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل امر غائب مجہول و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (لِيَنْزُلَ - لِيَنْزُلَنَّ - لِيَنْزُلُنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 10- اَلْعَسَلُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل امر حاضر معلوم و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (لَا تَعْسَلْ - لَا تَعْسَلَنَّ - لَا تَعْسَلُنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- پر صرف کبیر فعل امر حاضر مجہول و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (لَا تُظْلَمَ - لَا تُظْلَمَنَّ - لَا تُظْلَمُنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 11- اَلْفَضْلُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل امر غائب مجہول و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (لَا يَفْضُلْ - لَا يَفْضُلَنَّ - لَا يَفْضُلُنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- يَا اَلْعَلْبُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل امر غائب مجہول و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (لَا يُغْلَبْ - لَا يُغْلَبَنَّ - لَا يُغْلَبُنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 12- اَلْجُلُوسُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل مستقبل معلوم مؤکد بالام و نون تاکید ثقیلہ اور مؤکد بالام و نون تاکید خفیفہ (لَيَجْلِسَنَّ - لَيَجْلِسُنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- پر صرف کبیر فعل مستقبل مجہول مؤکد بالام و نون تاکید ثقیلہ اور مؤکد بالام و نون تاکید خفیفہ (لَيُكْسَبَنَّ - لَيُكْسَبُنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

☆ درج ذیل سوالات میں سے کوئی 2 کے جوابات دیں:

- 1- سلیبس کے مذکورہ مصادر میں سے کسی ایک مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر اسم ظرف کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 2- سلیبس کے مذکورہ مصادر میں سے کسی ایک مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر اسم آلہ صغریٰ، وسطیٰ اور کبریٰ کے صیغے مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 3- سلیبس کے مذکورہ مصادر میں سے کسی ایک مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر اسم تفضیل مذکورہ مؤنث کے صیغے مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 4- سلیبس کے مذکورہ مصادر میں سے کسی ایک مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر فعل تعجب کے صیغے مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 5- سلیبس کے مذکورہ مصادر میں سے کسی ایک مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر صفت مشبہ کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

## حصہ دوم

- 1- درج ذیل مصادر میں سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر کسی ایک مصدر سے صرف صغیر کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں:  
(۱) اَلتَّحْرِيْقُ (۲) اَلدُّخُوْلُ (۳) اَلْفَعُوْدُ (۴) اَلطَّلَبُ (۵) اَلهَزْبُ
- 2- اَلسَّيْرُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل ماضی معلوم (سَئَرَ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- يَا اَلْبَطْرُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل ماضی مجہول (مُطَرَ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

- 3- اَلشُّكُوْتُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل مضارع معلوم (يَسْكُتُ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟  
**يَا اَلْحُلُوْدُ** مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل مضارع مجہول (يُحْلَدُ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟  
 4- اَللَّهْسُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر اسم فاعل (اَلْوَسْ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟  
**يَا اَلسُّفُوْطُ** مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر اسم مفعول (مَسْفُوْطٌ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟  
 5- اَلْبَلُوْغُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل جہد معلوم (لَمَّ يَبْلُغُ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟  
**يَا اَلْحُلْطُ** مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل جہد مجہول (لَمَّ يَحْلُطُ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟  
 6- اَلنَّسْجُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نفی معلوم (اَلَا يَنْسُجُ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟  
**يَا الرَّقُوْدُ** مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نفی مجہول (اَلَا يَرُقْدُ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟  
 7- اَلْفَتْلُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نفی معلوم مؤکد بالن ناصب (لَنْ يَفْتُلَ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟  
**يَا اَلنَّفْعُ** مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نفی مجہول مؤکد بالن ناصب (لَنْ يَنْفَعُ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟  
 8- اَلتَّوَكُّلُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل امر حاضر معلوم و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (اُتَوَكَّنْ. اُتَوَكَّنْ. اُتَوَكَّنْ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟  
**يَا اَلْعَزُّ** مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل امر حاضر مجہول و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (لِثَعَزَّ. لِثَعَزَّ. لِثَعَزَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟  
 9- اَلتَّقْضُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل امر غائب معلوم و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (لَيَنْقُضَنَّ. لَيَنْقُضَنَّ. لَيَنْقُضَنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟  
**يَا اَلْبَكْتُ** مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل امر غائب مجہول و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (لَيَبْكُنَّ. لَيَبْكُنَّ. لَيَبْكُنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟  
 10- اَلدَّلُّكُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نفی حاضر معلوم و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (اَلَا تَدْلُكَنَّ. اَلَا تَدْلُكَنَّ. اَلَا تَدْلُكَنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟  
**يَا اَلنَّشْرُ** مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نفی حاضر مجہول و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (اَلَا تَنْشُرَنَّ. اَلَا تَنْشُرَنَّ. اَلَا تَنْشُرَنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟  
 11- اَلرَّحُضُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نفی حاضر معلوم و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (اَلَا يَرْحُضَنَّ. اَلَا يَرْحُضَنَّ. اَلَا يَرْحُضَنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟  
**يَا اَلْعِبَادَةُ** مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نفی حاضر مجہول و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (اَلَا يَعْبُدَنَّ. اَلَا يَعْبُدَنَّ. اَلَا يَعْبُدَنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟  
 12- اَلْقَتْلُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل مستقبل معلوم مؤکد بالام و نون تاکید ثقیلہ اور مؤکد بالام و نون تاکید خفیفہ (لَيَقْتُلَنَّ. لَيَقْتُلَنَّ. لَيَقْتُلَنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟  
**يَا اَلْحَوْرُ** مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل مستقبل مجہول مؤکد بالام و نون تاکید ثقیلہ اور مؤکد بالام و نون تاکید خفیفہ (لَيَحْوَرَنَّ. لَيَحْوَرَنَّ. لَيَحْوَرَنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

☆ درج ذیل سوالات میں سے کوئی 2 کے جوابات دیں:

- 1- سلیبس کے مذکورہ مصادر میں سے کسی ایک مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر اسم ظرف کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 2- سلیبس کے مذکورہ مصادر میں سے کسی ایک مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر اسم الہ صغریٰ، وسطیٰ اور کبریٰ کے صیغے مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 3- سلیبس کے مذکورہ مصادر میں سے کسی ایک مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر اسم تفضیل مذکر و مؤنث کے صیغے مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 4- سلیبس کے مذکورہ مصادر میں سے کسی ایک مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر فعل تعجب کے صیغے مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 5- سلیبس کے مذکورہ مصادر میں سے کسی ایک مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر صفت مشبہہ کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

## حصہ سوم

1- درج ذیل مصادر میں سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعِلَ يَفْعَلُ کے وزن پر کسی ایک مصدر سے صرف صغیر کی گردان تحریر کریں:

۱۔ الرُّكُوبُ ۲۔ الكُّرْبُ ۳۔ اللَّبْتُ

2- الحَمْدُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعِلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل ماضی معلوم (مُحَمَّدٌ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

یا السَّعَادَةُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعِلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل ماضی مجہول (سُعَيْدٌ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

3- اللَّعْوُقُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعِلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل مضارع معلوم (يَلْعُقُ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

یا الشَّهَادَةُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعِلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل مضارع مجہول (يُشْهَدُ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

4- اللَّبْسُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعِلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر اسم فاعل (لَابِسٌ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

یا الْعَظْشُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعِلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر اسم مفعول (مَعْظُوشٌ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

5- الْحِفْظُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعِلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل جہد معلوم (لَمْ يَحْفَظْ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

یا الْضِّحْكُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعِلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل جہد مجہول (لَمْ يُضْحَكْ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

6- الْجَهْلُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعِلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نفی معلوم (لَا يَجْهَلُ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

یا الشَّهَادَةُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعِلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نفی مجہول (لَا يُشْهَدُ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

7- الْفَهْمُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعِلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نفی معلوم مؤکد بالن ناصبہ (لَنْ يَفْهَمَ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

یا الْفُؤُومُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعِلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نفی مجہول مؤکد بالن ناصبہ (لَنْ يُفْؤُومَ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

ترجمہ تحریر کریں؟

8- اللَّحُوقُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعِلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل امر حاضر معلوم و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ

(الْحَقُّ - الْحَقَّقَ - الْحَقَّقَنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟ یا السَّمْعُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعِلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل امر حاضر

مجہول و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (لِئَسْمَعَنَّ - لِيَسْمَعَنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

9- الرُّكُوبُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعِلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل امر غائب معلوم و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ

(لِيُرْكَبَنَّ - لِيُرْكَبَنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟ یا الكُّرْبُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعِلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل

امر غائب مجہول و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (لِيُكْرَبَنَّ - لِيُكْرَبَنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

10- اللَّبْتُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعِلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نہیں حاضر معلوم و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ

(لَا تَلْبُتُ - لَا تَلْبُتَنَّ - لَا تَلْبُتَنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟ یا الحَمْدُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعِلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر

فعل نہیں حاضر مجہول و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (لَا تُحْمَدَنَّ - لَا تُحْمَدَنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

11- السَّعَادَةُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعِلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نہیں غائب معلوم و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ

(لَا يَسْعَدَنَّ - لَا يَسْعَدَنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟ یا اللَّعْوُقُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعِلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف

کبیر فعل نہیں غائب مجہول و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (لَا يَلْعُقَنَّ - لَا يَلْعُقَنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

12- الشَّهَادَةُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعِلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل مستقبل معلوم مؤکد بالام و نون تاکید ثقیلہ اور مؤکد بالام و نون

تاکید خفیفہ (لَيُشْهَدَنَّ - لَيُشْهَدَنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟ یا اللَّبْسُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعِلَ يَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر

فعل مستقبل مجہول مؤکد بالام و نون تاکید ثقیلہ اور مؤکد بالام و نون تاکید خفیفہ (لَيَلْبَسَنَّ - لَيَلْبَسَنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

☆ درج ذیل سوالات میں سے کوئی 2 کے جوابات دیں:

- 1- سلیبس کے مذکورہ مصادر میں سے کسی ایک مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ یَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر اسم ظرف کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 2- سلیبس کے مذکورہ مصادر میں سے کسی ایک مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ یَفْعَلُ کے وزن پر اسم آلہ صغریٰ، وسطیٰ اور کُبْرٰی کے سینے مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 3- سلیبس کے مذکورہ مصادر میں سے کسی ایک مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ یَفْعَلُ کے وزن پر اسم تفضیل مذکر و مؤنث کے سینے مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 4- سلیبس کے مذکورہ مصادر میں سے کسی ایک مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ یَفْعَلُ کے وزن پر فعل تعجب کے سینے مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 5- سلیبس کے مذکورہ مصادر میں سے کسی ایک مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ یَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر صفت مشبہ کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

### حصہ چہارم

1- درج ذیل مصادر میں سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ یَفْعَلُ کے وزن پر کسی ایک مصدر سے صرف صغیر کی گردان تحریر کریں:

۱. الذَّهَابُ ۲. الْجَزْحُ ۳. الْبَدْحُ

- 2- الْفَتْحُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ یَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل ماضی معلوم (فَتَحَ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 3- الْبُحُودُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ یَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل ماضی مجہول (بُحِدَ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 4- الْكُفُوضُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ یَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل مضارع معلوم (یُفْضِضُ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 5- الْكُرْفُغُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ یَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل مضارع مجہول (یُرْفَعُ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 6- الْدَفْعُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ یَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر اسم فاعل (دَافِعٌ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 7- الْكُرُوعُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ یَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر اسم مفعول (مَدْرُوعٌ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 8- الْفَطْعُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ یَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل جہد معلوم (لَمْ یَفْطَعْ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 9- الْبُجُولُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ یَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل جہد مجہول (لَمْ یُجُولَ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 10- الْطَبِخُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ یَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نئی معلوم (لَا یَطْبِخُ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 11- الْبَضْعُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ یَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نئی مجہول (لَا یُبْضَعُ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 12- الْكَطْحُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ یَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نئی معلوم مؤکد بان ناصبہ (لَنْ یَطْحَنَ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 13- الْكَسْحُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ یَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نئی مجہول مؤکد بان ناصبہ (لَنْ یُسْحَنَ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 14- الْكَوْرَحَةُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ یَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل امر حاضر مجہول و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (اِصْرَحْ - اِصْرَحْنَ - اِصْرَحِي - اِصْرَحْنَ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 15- الْكَلْعُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ یَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل امر حاضر مجہول و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (لِئْسَبَحْ - لِئْسَبَحِي - لِئْسَبَحِي - لِئْسَبَحِي) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 16- الْكَلْعُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ یَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل امر غائب مجہول و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (لِیَخْلَعْ - لِیَخْلَعِي - لِیَخْلَعِي - لِیَخْلَعِي) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 17- الْكَلْعُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ یَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل امر غائب مجہول و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (لِیُقْلَعْ - لِیُقْلَعِي - لِیُقْلَعِي - لِیُقْلَعِي) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 18- الْفَتْحُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ یَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل امر حاضر مجہول و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (لَا تَفْتَحْ - لَا تَفْتَحِي - لَا تَفْتَحِي - لَا تَفْتَحِي) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 19- الْكَلْعُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ یَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل امر غائب مجہول و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (لَا تُدْهَبْ - لَا تُدْهَبِي - لَا تُدْهَبِي - لَا تُدْهَبِي) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 20- الْكَلْعُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ یَفْعَلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل امر غائب مجہول و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (لَا یَجْرَحْ - لَا یَجْرَحِي - لَا یَجْرَحِي - لَا یَجْرَحِي) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

صرف کبیر فعل نہی غائب مجہول و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (لَا يُجَدِّحُ - لَا يُجَدِّحَنَّ - لَا يُجَدِّحَنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

12- اَلْجُحُوْدُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل مستقبل معلوم مؤکد بالام و نون تاکید ثقیلہ اور مؤکد بالام و نون تاکید خفیفہ (لَيَجْحَدَنَّ - لَيَجْحَدَنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

یا اَلْهُوْضُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل مستقبل مجہول مؤکد بالام و نون تاکید ثقیلہ اور مؤکد بالام و نون تاکید خفیفہ (لَيَهْوِضَنَّ - لَيَهْوِضَنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

☆ درج ذیل سوالات میں سے کوئی 2 کے جوابات دیں:

- 1- سلیبس کے مذکور مصادر میں سے کسی ایک مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر اسم ظرف کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 2- سلیبس کے مذکور مصادر میں سے کسی ایک مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر اسم آلہ صغریٰ، وسطیٰ اور کبریٰ کے صیغے مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 3- سلیبس کے مذکور مصادر میں سے کسی ایک مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر اسم تفضیل مذکر و مؤنث کے صیغے مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 4- سلیبس کے مذکور مصادر میں سے کسی ایک مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر فعل تعجب کے صیغے مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 5- سلیبس کے مذکور مصادر میں سے کسی ایک مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر صفت مشبہ کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

### حصہ پنجم

☆ درج ذیل سوالات میں سے کوئی 3 کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 لازمی ہے:

- 1- اَلتَّعَبَةُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل ماضی معلوم (تَعَمَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 2- اَلتَّعَبَةُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل ماضی معلوم (تَعَمَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 3- اَلتَّعَبَةُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل مضارع مجہول (يَتَعَمُّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 4- اَلتَّعَبَةُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر اسم مفعول (مَتَعَمُّومٌ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 5- اَلتَّعَبَةُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل جہد مجہول (لَمْ يُتَعَمَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 6- اَلتَّعَبَةُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نفی معلوم (لَا يَتَعَمُّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 7- اَلتَّعَبَةُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نفی مجہول مؤکد بالن ناصب (لَنْ يُتَعَمَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 8- اَلتَّعَبَةُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل امر حاضر معلوم و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ (اِنْعَمْ - اِنْعَمَنَّ - اِنْعَمَنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

### حصہ ششم

- 1- اَلْقُرْبُ اور اَلْبُعْدُ مصادر میں سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر کسی ایک مصدر کی صرف کبیر کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 2- اَلْبَصَارَةُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل ماضی معلوم (بَصَرَ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 3- اَلْكَثْرَةُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل ماضی مجہول (كُثِرَ بِهِ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 4- اَلصَّعْوَبَةُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل مضارع معلوم (يَصْعُبُ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 5- اَلشَّرَافَةُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل مضارع مجہول (يُشْرَفُ بِهِ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 6- اَلْعَظْمَةُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر اسم فاعل (عَظِيْمٌ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 7- اَلْكَرَامَةُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر اسم مفعول (مَكْرُوْمٌ بِهِ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 8- اَلْقُرْبُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل جہد معلوم (لَمْ يَقْرُبْ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟
- 9- اَلْبُعْدُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعَلَ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل جہد مجہول (لَمْ يُبْعَدْ بِهِ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

6- اَلْبَصَارَةُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعْلَلٌ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نفی معلوم (لَا يَبْصُرُ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

يَا اَلْكَثْرَةَ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعْلَلٌ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نفی مجہول (لَا يُكْثِرُ بِهِ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

7- اَلصُّعُوبَةُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعْلَلٌ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نفی معلوم مؤکد بالن ناصبہ (لَنْ يَصْعُبَ) کی گردان

مع ترجمہ تحریر کریں؟ يَا اَلشَّرَافَةَ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعْلَلٌ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نفی مجہول مؤکد بالن

ناصبہ (لَنْ يُشْرَفَ بِهِ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

8- اَلْعَظْمَةُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعْلَلٌ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل امر حاضر معلوم و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ

(اَعْظَمَ. اَعْظَمَنَّ. اَعْظَمَنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟ يَا اَلْكَرَامَةَ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعْلَلٌ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف

کبیر فعل امر حاضر مجہول (لَتُكْرَمَنَّ بِكَ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

9- اَلْقُرْبُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعْلَلٌ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل امر غائب معلوم و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ

(لِيَقْرَبَنَّ. لِيَقْرَبَنَّ. لِيَقْرَبَنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

يَا اَلْبَعْدُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعْلَلٌ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل امر غائب مجہول (لِيُبْعَدَنَّ بِهِ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

10- اَلْبَصَارَةُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعْلَلٌ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نفی حاضر معلوم و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ

(لَا تَبْصُرُ. لَا تَبْصُرَنَّ. لَا تَبْصُرَنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟ يَا اَلْكَثْرَةَ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعْلَلٌ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف

کبیر فعل نفی حاضر مجہول (لَا تُكْثِرَنَّ بِكَ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

11- اَلصُّعُوبَةُ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعْلَلٌ يَفْعُلُ کے وزن پر صرف کبیر فعل نفی غائب معلوم و مؤکد بانون ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ

(لَا يَصْعُبُ. لَا يَصْعُبَنَّ. لَا يَصْعُبَنَّ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟ يَا اَلشَّرَافَةَ مصدر سے ثلاثی مجرد صحیح باب فَعْلَلٌ يَفْعُلُ کے وزن پر

صرف کبیر فعل نفی غائب مجہول (لَا يُشْرَفُ بِهِ) کی گردان مع ترجمہ تحریر کریں؟

### یادداشت کے لیے ضروری وضاحت

۱- یہ باب لازم ہے اس سے فعل مجہول اور اسم مفعول نہیں آتا۔

۲- فعل کی دو قسمیں ہیں: لازم۔ متعدی

**لازم:** اس فعل کو کہتے ہیں جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے اور اس کا اثر مفعول بہ تک نہ پہنچے: جیسے كَرِهَ زَيْدٌ (زيد عزت والا ہوا) بَعَدَ بَكْرٌ (بکر دور ہوا)

**متعدی:** وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول بہ تک پہنچے۔ جیسے صَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا (زيد نے عمرو کو مارا)

چونکہ فعل لازم کا اثر مفعول تک پہنچتا ہی نہیں اس لئے فعل لازم سے مفعول نہیں آتا اور اسی طرح فعل مجہول چونکہ مفعول کی

طرف منسوب ہوتا ہے اس لیے فعل مجہول بھی فعل لازم سے نہیں آتا۔

نوٹ: فعل لازم کو جب حرف جر کے ذریعے متعدی کریں تو اس سے مفعول اور مجہول کے صیغے آتے ہیں۔

جیسے كَرِهَ بِهِ، مَكَرُوْهُ بِهِ، لَشَكَرَ بِهِ۔

لازم کو متعدی بنانا: فعل لازم کو ب حرف جر، باب تفعیل کے عین کی تضعیف اور باب افعال کے ہمزے کے ذریعے فعل متعدی بنایا جاسکتا ہے

جیسے: ذَهَبْتُ بِهِ (میں نے اسے بھیجا) فَرَحْتُهُ (میں نے اسے خوش کیا) أَذْهَبْتُ زَيْدًا (میں نے زيد کو بھیجا)

## 12- دروس اللغة العربية (الجزء الاول)

ماڈل پیپر نمبر 2

سلیبس: درس 7 تا 12 (تحریری امتحان 20+ شفاہی امتحان 5: کل نمبر 25)

## (حصہ اول)

1- کوئی 5 کا اردو میں ترجمہ کریں؟

- (1) من هذه؟ هذه أمّنة۔  
 (2) ومن تلك؟ تلك فاطمة۔  
 (3) هذه طبيبة، وتلك مُرَضَّة۔  
 (4) هذه من الهند، وتلك من اليابان۔  
 (5) هذه طويلة، وتلك قصيرة۔  
 (6) من هذا؟ هذا حامد۔

2- کوئی 5 کا عربی میں ترجمہ کریں؟

- 1- وہ کون ہے؟ وہ علی ہے۔  
 2- کیا وہ مرغی ہے؟ نہیں، وہ بٹخ ہے۔  
 3- وہ کیا ہے؟ وہ انڈا ہے۔  
 4- یہ مدرس کی کار ہے۔ اور وہ مدیر کی کار ہے۔  
 5- کیا عباس کی گھڑی یہ ہے؟ نہیں یہ حامد کی گھڑی ہے، وہ عباس کی گھڑی ہے۔  
 6- وہ مرغ ہے اور وہ مرغی ہے۔

3- درج ذیل جملوں میں سے کوئی 5 کا اردو میں ترجمہ کریں اور اعراب لگائیں:

- 1- هذه مدرسة، وتلك جامعة۔  
 2- ذلك حمار، وتلك بقرة۔  
 3- اذلك مسجد؟ لا، تلك مدرسة۔  
 4- هذا بيت المؤذن، وتلك حديقة التاجر۔  
 5- هذه مدرسة، وتلك طالبة۔  
 6- هذا كلب، وذلك قط۔  
 7- هذا جمل، وتلك ناقة۔

4- پانچ خالی جگہوں کو اشارہ بعید ذلک اور پانچ کو تِلْكَ سے پُر کریں نیز ترجمہ کریں اور اعراب لگائیں:

- 1- ..... أم۔  
 2- ..... أب۔  
 3- ..... قلم۔  
 4- ..... ملعقة۔  
 5- ..... عين۔  
 6- ..... حجر۔  
 7- ..... قميص۔  
 8- ..... قدر۔  
 9- ..... نافذة۔  
 10- ..... بقرة۔  
 11- ..... مكتب۔  
 12- ..... ناقة۔  
 13- ..... مهندس۔  
 14- ..... حديقة۔  
 15- ..... مُرَضَّة۔  
 16- ..... سرير۔  
 17- ..... طالبة۔  
 18- ..... طالبة۔  
 19- ..... جمل۔  
 20- ..... بطة۔  
 21- ..... مؤذن۔

## (حصہ دوم)

1- اردو میں ترجمہ کریں؟

- 1- هذا الرَّجُلُ تاجرٌ وذلك الرَّجُلُ طبيب۔  
 2- إنَّهم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد۔  
 3- هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب۔  
 4- بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة۔

2- عربی میں ترجمہ کریں:

- 1- یہ کار کس کی ہے اور وہ کس کی؟  
 2- یہ کار ڈاکٹر کی ہے اور وہ تاجر کی۔  
 3- یہ کار امریکی ہے اور وہ جاپانی۔



3۔ درس نمبر 8 کی روشنی میں درج ذیل سوالوں کا عربی میں جواب دیں اور سوال جواب کا اردو میں ترجمہ بھی کریں:

- 1۔ من هذا الرجل؟ ومن ذلك الرجل؟
- 2۔ ما اسم التاجر؟
- 3۔ ما اسم الطبيب؟
- 4۔ من اين سيارة الطبيب؟
- 5۔ من اين سيارة التاجر؟
- 6۔ اين بيت التاجر؟
- 4۔ اين بيت الطبيب؟

4۔ درج ذیل جملوں میں سے کوئی 10 کا ترجمہ کریں اور اعراب لگائیں:

- 1۔ هذا الولد خالد، وذلك الولد محمد۔
- 2۔ هذا الرجل مدرس، وذلك الرجل مهندس۔
- 3۔ هذا الكتاب جديد، وذلك كتاب قديم۔
- 4۔ هذه السيارة لِعَلِيٍّ، وتلك لِحَالِدٍ۔
- 5۔ هذا الباب مفتوح، وذلك الباب مُغْلَقٌ۔
- 6۔ لمن هذه الساعة؟ هي لِعَبَّاسٍ۔
- 7۔ اهذا البيت للطبيب؟ لا، هو للمدرس۔
- 8۔ اهذه الدر اجة لابن المؤدّن؟ نعم۔
- 9۔ من هذا الولد؟ هو طالب من العراق۔
- 10۔ اذلك البيت جديد؟ لا، هو قديم جداً۔
- 11۔ هذه السيارة من اليابان، وتلك من أمريكا۔
- 12۔ هذا الشِّكِّيُّن من ألمانيا وتلك البلعقة من انكلترا۔

5۔ دی گئی مثال کو پڑھیں اور اگلے جملوں میں سے کوئی 5 کو اس طرح تبدیل کریں نیز ترجمہ بھی کریں:

مثال: هذا كتابٌ۔	هذا الكتابُ	لمحمدٍ۔
1۔ هذا طبيب	.....	من الهند۔
2۔ هذه سيارة	.....	للمدير۔
3۔ ذلك ولد	.....	ابن المدرس۔
4۔ تلك ساعة	.....	من سويسرا۔
5۔ هذا بيت	.....	للمهندس۔
6۔ هذا قلم	.....	لعباس۔
7۔ ذلك رجل	.....	مؤدّن۔
8۔ هذه بيضة	.....	كبيرة۔
9۔ هذا منديل	.....	ونسخ۔
10۔ هذه حقيبة	.....	للمدرس۔

6۔ دی گئی مثال کو پڑھیں اور اسی طرح سوال جواب بنائیں نیز ترجمہ بھی کریں:

مثال: لِمَنْ هذا الكتابُ؟	هذا الكتابُ	لمحمدٍ (محمد)
1۔ .....	(قلم)	(عباس)
2۔ .....	(مفتاح)	(علي)
3۔ .....	(سيارة)	(المدير)
4۔ .....	(بقرة)	(الفلاح)
5۔ .....	(حقيبة)	(المدرس)

..... (عَمَّار)	..... (كرسى)	..... ٦
..... (بنت الفلاح)	..... (بطة)	..... ٤
..... (ابن المدير)	..... (ساعة)	..... ٨
..... (الطبيب)	..... (بيت)	..... ٩
..... (الطالب)	..... (ملعقة)	..... ١٠

6۔ درج ذیل جملوں میں سے کوئی 5 کا ترجمہ کریں اور اعراب لگائیں:

- ١۔ هذا الطبيب من انكترا۔  
 ٢۔ ذهب حامد الى قرنسا۔  
 ٣۔ محمود مريض. هو الآن في المستشفى۔  
 ٤۔ ذهب عبد الله من المانيا الى انكترا۔  
 ٥۔ هذا الكتاب لعيسى وذلك الكتاب ليوسى۔  
 ٦۔ هذا لهندس من امريكا۔

7۔ درج ذیل جملوں کا ترجمہ کریں اور اعراب لگائیں:

- ١۔ السبورة امام الطالب و هي خلف المدرس۔  
 ٢۔ اين سيارة المدرس؟ هي امام المدرسة۔  
 ٣۔ اين بيت الامام؟ بيت الامام خلف المسجد۔  
 ٤۔ اين جلس حامد؟ جلس خلف محمود۔  
 ٥۔ ذهب عمارة الى المسجد و جلس امام البحر۔

### ( حصہ سوم )

1۔ کوئی 5 جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں؟

- ١۔ من هذا الرجل؟ هو عباس۔ عباس تاجر۔ عباس تاجر غني۔  
 ٢۔ حامد مدرس۔ حامد مدرس جديد۔  
 ٣۔ ما هذا؟ هذا تفاح۔ التفاح فاكهة لذيذة۔  
 ٤۔ اين المدرس؟ هو في الفصل۔ واين المدرس الجديد؟ هو عند المدير۔  
 ٥۔ اين الطالب الجديد؟ ذهب الى المكتبة۔  
 ٦۔ من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ هو المدير الجديد۔  
 ٧۔ من الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل؟ هو ابن المدير الجديد۔

2۔ کوئی 5 جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں؟

- ١۔ وہ کیا ہے؟ وہ چڑیا ہے۔ چڑیا چھوٹا پرندہ ہے۔  
 ٢۔ عربی آسان زبان ہے۔ عربی خوبصورت زبان ہے۔  
 ٣۔ عمار محنتی طالب علم ہے اور محمود سست طالب علم ہے۔  
 ٤۔ تو کون ہے؟ میں طالب علم ہوں۔  
 ٥۔ وہ خوبصورت کار کس کی ہے؟ وہ نئے ہیڈ ماسٹر کی ہے۔  
 ٦۔ یہ بڑی کتاب کس کی ہے؟ کیا وہ مدرس کی ہے؟ نہیں، وہ نئے طالب علم کی ہے۔  
 ٧۔ چھوٹا چمچ کہاں ہے؟ وہ کپ میں ہے۔  
 ٨۔ ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے؟ وہ وہاں ہے۔

3۔ کوئی 5 جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں اور اعراب لگائیں؟

- ۱۔ محمد طالب قدیم۔  
۲۔ الا نکلز لگائیے لغت صعبة۔  
۳۔ اذلك الرجل مدرس جديد؟ لا، هو طبيب جديد۔  
۴۔ انت رجل غني؟ لا، انا رجل فقير۔  
۵۔ هذا درس سهل۔  
۶۔ القاهره مدينة كبيرة۔  
۷۔ عباس تاجر شهر۔  
۸۔ انت مدرس قديم؟ لا، انا مدرس جديد۔  
۹۔ بلال مهندس كبير۔  
۱۰۔ احامد طالب كسلان؟ لا، هو طالب مجتهد۔

4۔ کوئی 5 خالی جگہوں کو مناسب صفت سے پُر کریں نیز ترجمہ کریں اور اعراب لگائیں:

- ۱۔ خدیجہ طالبہ۔  
۲۔ خالد تاجر۔  
۳۔ العربیة لغت۔  
۴۔ العصفور طائر۔  
۵۔ التفاح فاكهة۔  
۶۔ انا مدرس۔  
۷۔ محمد طبيب۔  
۸۔ الانكليزية لغت۔  
۹۔ انت طالب۔  
۱۰۔ القاهرة مدينة۔

5۔ خالی جگہوں کو مناسب موصوف سے پُر کریں نیز ترجمہ کریں اور اعراب لگائیں:

- ۱۔ العربیة۔  
۲۔ انا۔  
۳۔ عمار۔  
۴۔ هذا۔  
۵۔ فيصل۔  
۶۔ مكسور۔  
۷۔ كسلان۔

6۔ ترجمہ کریں اور اعراب لگائیں:

- ۱۔ انا جوعان۔  
۲۔ انت جوعان؟ لا، انا عطشان۔  
۳۔ لہاذا المدرس غضبان اليوم؟  
۴۔ الكوب ملان۔

7۔ کوئی 5 جملوں کا ترجمہ کریں اور اعراب لگائیں:

- ۱۔ الطبيب الجديد في المستشفى، والطبيب القديم في المستوصف۔  
۲۔ القلم المكسور على المكتب۔  
۳۔ البرؤحة الجديدة في الغرفة الكبيرة۔  
۴۔ من هذا الولد الصغير؟ هو ابن المدرس الجديد۔  
۵۔ الولد الطويل الذي خرج من الفصل الآن طالب من الهند۔  
۶۔ انا في المدرسة الثانوية۔  
۷۔ ذهب الرجل الفقير الى الوزير۔  
۸۔ جلس الطالب الجديد خلف حامد۔  
۹۔ الكسبين الكبير حاد جداً۔  
۱۰۔ اللغة العربية سهلة۔

8۔ تو سین میں دیے گئے الفاظ کو صفت بنائیں اور جہاں ضرورت ہو وہاں الج پر الف لام (ال) داخل کریں:

- ۱۔ ابن المدرس۔  
۲۔ التاجر۔  
۳۔ انا طالب۔  
۴۔ جلس الطالب۔  
۵۔ من الولد۔  
۶۔ عمار ولد۔  
۷۔ فيصل طبيب۔  
۸۔ لمن هذا السرير۔  
۹۔ هذا قلم۔  
۱۰۔ ابن السكين۔  
۱۱۔ لمن هذه السيارة۔  
(شهر)  
(مكسور)  
(مكسور)  
(حاد)  
(جميلة)  
(جديد)  
(كبير)  
(قديم)  
(جديد)  
(طويل)  
(قصير)

9۔ ترجمہ کریں اور اعراب لگائیں:

- ۱۔ الطالب الذى خرج من الفصل الآن من اندونيسياً۔  
 ۲۔ البيت الكبير الذى فى ذلك الشارع للوزير۔  
 ۳۔ الكتاب الذى على المكتب للمدرس۔  
 ۴۔ السرير الذى فى غرفة خالد مكسور۔  
 ۵۔ لهن هذا القلم الجميل الذى على المكتب؟

### ( حصہ چہارم )

1۔ اردو میں ترجمہ کریں؟

- حامد      آذَهَبْتُ إِلَى الْكُوَيْتِ يَا مُحَمَّدُ؟  
 محمد      نَعَمْ، ذَهَبْتُ.  
 حامد      وَزَمِيلُكَ، أَيْنَ أَبُوهُ؟  
 محمد      أَبُوهُ فِي الْيَابَانِ - هُوَ تَاجِرٌ كَبِيرٌ.  
 حامد      أَلَيْكَ إِخِي يَا مُحَمَّدُ؟  
 محمد      نَعَمْ، لِي أَخٌ وَاحِدٌ، اسْمُهُ أَسَامَةُ، وَهُوَ مَعِي هُنَا فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ. وَلِي أُخْتُ وَاحِدَةٌ اسْمُهَا زَيْنَبُ.  
 وهى فى العراق مَعَ زَوْجِهَا - زَوْجُهَا مَهْنَدُسٌ.  
 حامد      أَعِنْدَكَ سَيَارَةٌ يَا أَخِي؟  
 محمد      لَا، مَا عِنْدِي سَيَارَةٌ. عِنْدِي دَرَجَةٌ - حَمْرَةٌ عِنْدَكَ سَيَارَةٌ.

2۔ درس نمبر 10 کی روشنی میں آنے والے سوالوں میں سے کوئی 15 کے جوابات دیں؟

- ۱۔ ما اسمك؟      ۴۔ لك اخت؟      ۱۳۔ من اين محمد؟      ۱۹۔ اين ابوه؟  
 ۲۔ من اين انت؟      ۸۔ عندك سيارة؟      ۱۴۔ مالغته؟      ۲۰۔ اين زينب؟  
 ۳۔ مالغتك؟      ۹۔ عندك دراجة؟      ۱۵۔ اين ابوه؟      ۲۱۔ اين زوجها؟  
 ۴۔ اين ابوك؟      ۱۰۔ عندك قلم؟      ۱۶۔ اين امه؟      ۲۲۔ ازوجها مدرس؟  
 ۵۔ اين امك؟      ۱۱۔ عندك دفتر؟      ۱۴۔ من اين حمزة؟  
 ۶۔ لك اخ؟      ۱۲۔ ابوك تاجر؟      ۱۸۔ مالغته؟

3۔ خالی جگہوں کو مناسب ضمیر (ہا/ہا) سے پُر کریں:

- ۱۔ هذه البنت طالبة۔ اسمُ..... زينب۔  
 ۲۔ محمد طبيب۔ وابن..... مهندس۔  
 ۳۔ هذا الرجل تاجر كبير۔ اسم..... عبد الله۔  
 ۴۔ آمنة فى الغرفة۔ وام..... فى المطبخ۔  
 ۵۔ عائشة طبيبة۔ واخت..... ممرضة۔  
 ۶۔ خرج محمد من الفصل وخرج معه زميل.....

4۔ نیچے دی گئی مثال کے طرح پانچ سوالات اور جوابات لکھیں:

- (الف) أَعِنْدَكَ قَلَمٌ؟ نَعَمْ، عِنْدِي قَلَمٌ۔  
 (ب) أَعِنْدَكَ قَلَمٌ؟ لَا، مَا عِنْدِي قَلَمٌ۔

نوٹ: سوالات اور جوابات سے پہلے درج ذیل الفاظ کے معنی اور ضمیر کے استعمال پر غور کریں

- بَيْتٌ (گھر)      بَيْتِي (میرا گھر)      بَيْتُهَا (اس ایک عورت کا گھر)      بَيْتُكَ (تیرا ایک مرد کا گھر)      بَيْتُهُ (اس ایک مرد کا گھر)

5۔ آنے والے اسماء کو ضمیر متکلم، مخاطب اور غائب کی طرف مضاف کریں نیز ترجمہ بھی کریں

- قَلَمٌ      هَذَا قَلَمِي۔      هَذَا قَلَمُكَ۔      هَذَا قَلَمُهُ۔      هَذَا قَلَمُهَا۔

.....	.....	.....	.....	کِتَابٌ
.....	.....	.....	.....	سَرِيْرٌ
.....	.....	.....	.....	اسْمٌ
.....	.....	.....	.....	مَنْدِيلٌ
.....	.....	.....	.....	ابْنٌ
.....	.....	.....	.....	سَيَّارَةٌ
.....	.....	.....	.....	مِفْتَاحٌ
.....	.....	.....	.....	يَدٌ

6۔ ال الفاظ (لی۔ لک۔ لہ۔ لہا) کو غور سے پڑھیں اور درج ذیل جملوں کا ترجمہ بھی کریں:

۱۔ لی اُخْتٌ وَاَحَدَةٌ۔ ۲۔ اَلْكَ اَخٌ؟ لا، مالی اَخٌ۔

۳۔ اُخْتِي لَهَا طِفْلٌ صَغِيرٌ ۴۔ زَمِيْلِي لَهْ اَخٌ وَاُخْتٌ۔

7۔ لفظ (مَعَ) کے معنی پر غور کریں اور درج ذیل جملوں کا ترجمہ کریں:

۱۔ خَرَجَ حَامِدٌ مَعَ خَالِدٍ۔ ۲۔ مَنْ مَعَكَ يَا عَلِيٌّ؟ مَعِي زَمِيْلٌ۔

۳۔ جَلَسَ الْمَدْرَسُ مَعَ الْمَدِيْرِ۔ ۵۔ اَمْنَةٌ مَعَهَا زَوْجُهَا۔

۶۔ خَرَجَ اَبِي مِنْ الْبَيْتِ۔ مَنْ خَرَجَ مَعَهُ؟ خَرَجَ مَعَهُ عَمِّي۔

8۔ درج ذیل جملوں کا ترجمہ کریں اور اعراب بھی لگائیں:

۱۔ اَبِي وَاِحِي فِي الْبَيْتِ۔ ۲۔ زَيْنَبُ فِي الرِّيَاضِ۔ اِخْوَهَا فِي الطَّائِفِ وَاَبُوهَا فِي الْمَدِيْنَةِ الْمَنُوْرَةِ۔

۳۔ اَيْنَ اَبُوكَ يَا حَامِدٌ؟ ذَهَبَ اِلَى السُّوْقِ۔ ۵۔ هَذَا الطَّالِبُ اَبُوهُ وَزَيْرٌ، وَاِخْوَةٌ تَاجِرٌ كَبِيْرٌ۔

۶۔ ذَهَبَ اِخِي اِلَى الْمَدْرَسَةِ، وَذَهَبَ اَبِي اِلَى الْجَامِعَةِ۔ ۳۔ اِخْوَكُ طَبِيْبٌ؟ لا، هُوَ مَدْرَسٌ۔

9۔ درج ذیل الفاظ کے آخری حرف کی حرکت کا خیال کرتے ہوئے اعراب لگائیں اور ترجمہ بھی کریں:

خالد حمزة عمار انس معاوية حامد

اسامة عكرمة عباس محمد طلحة

### (حصہ پنجم)

1۔ اردو میں ترجمہ کریں؟

هذا بيتي۔ بيتي امام المسجد۔ بيتي جميل۔ فيه حديقة صغيرة۔

هذه غرفة اخي، وتلك غرفة اختي۔ غرفة اخي كبيرة وغرفة اختي صغيرة۔ غرفة اخي امام غرفتي وغرفة اختي

امام المطبخ۔

لي اُخٌ وَاَحَدٌ اسْمُهُ اسامة، وَاَحْتٌ وَاَحَدَةٌ اسْمُهَا سَعَادٌ۔

اَبِي وَاِحِي فِي تِلْكَ الْغُرْفَةِ الْكَبِيْرَةِ۔ اَنَا حَبُّ اَبِي وَاِحِي وَاِحِبُّ اِخِي وَاِخْتِي۔

2۔ اردو میں ترجمہ کریں اور اعراب بھی لگائیں؟

۱۔ من في هذا البيت؟ فيهِ حَامِدٌ۔

۲۔ ماذا في الحقيبة؟ فيها كتابي وقلبي ودفترتي۔

- ۳۔ من فی السیارة؟  
 ۲۔ من فی مسجد الجامعة الآن؟  
 ۵۔ من فی هذه الغرفة؟  
 فیہا ابی واخی واختی۔  
 ما فیہ احدٌ۔  
 فیہا المذیر۔

2۔ اردو میں ترجمہ کریں اور اعراب بھی لگائیں؟

- ۱۔ اُحِبُّ ابی واخی۔ ۲۔ احب اخى واختی۔ ۳۔ احب زمیلی۔ ۴۔ احب استاذی۔  
 ۵۔ احب الله ۶۔ احب النبى صلی الله علیه واله وسلم ۷۔ احب اللغة العربیة۔

### (حصہ ششم)

1۔ اردو میں ترجمہ کریں؟

- کَيْفَ حَالِكَ يَا بِنْتُ؟  
 این ابوک؟  
 واین امک؟  
 ومن هذه الفتاة التي مَعَكَ؟ اهی اختک؟  
 ما اسمها؟  
 اهی زمیلک؟  
 انا بخیر والحمد لله۔  
 اِنِّي هُنَا فِي الْمَدِينَةِ الْمُنُورَةِ. هُوَ مُوَجَّهٌ فِي الْمَدْرَسَةِ الثَّانَوِيَّةِ۔  
 هِيَ اِيضًا هُنَا۔ هِيَ طَبِيبَةٌ فِي مَسْتَشْفَى الْوِلَادَةِ۔  
 لا، هِيَ بِنْتُ عَمِّي۔  
 اسْمُهَا فَاطِمَةُ۔  
 لا، اِنِّي فِي الْمَدْرَسَةِ الْمَتَوَسِّطَةِ وَهِيَ فِي الْمَدْرَسَةِ الثَّانَوِيَّةِ۔

2۔ کوئی پانچ جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں اور اعراب بھی لگائیں؟

- ۱۔ کیف حالک یا ابی؟  
 ۲۔ کیف حالک یا اخی؟  
 ۳۔ این ابنک یا زینب؟  
 ۴۔ این بنتک یا آمنہ؟  
 ۵۔ لمن هذه الساعة الجميلة؟  
 ۶۔ اهدا قلبک یا محمد؟  
 ۷۔ اهدا قلبک انت۔  
 ۸۔ انت مهندس یا اخی؟  
 ۹۔ انت طبيبة یا اختی؟  
 ۱۰۔ انا طبيب۔  
 ۱۱۔ انا مدرسة۔  
 ۱۲۔ تلك السيارة الجميلة التي خرجت الآن من المدرسة للمذیر۔

3۔ دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں اور دی گئی مثال کی روشنی میں منادی کو بدل کر دوبارہ لکھیں، ترجمہ کریں اور اعراب لگائیں:

- مثال:** این قلبک یا ابی؟  
 ۱۔ اعدک قلم یا محمد؟  
 ۲۔ این بیتک یا سیدی؟  
 ۳۔ اهدا الدفترک یا علی؟  
 ۴۔ من این انت یا اخی؟  
 ۵۔ این ابوک انت یا اخی؟  
 ۶۔ انت مریض یا خالی؟  
 ۷۔ این بنتک یا عمی؟  
 این قلبک یا اخی؟  
 ..... یا آمنہ؟  
 یا استاذتی؟  
 ..... یا فاطمة؟  
 ..... یا اختی؟  
 ..... یا خدیجة؟  
 ..... یا خالتی؟  
 ..... یا عمتی؟

- ۸۔ الك اخ يا حامد؟ ..... يا سعاد؟  
 ۹۔ ماذا عندك يا اخي؟ ..... يا اختي؟  
 ۱۰۔ السلام عليك يا ابي؟ ..... يا ابي؟

4۔ آنے والے جملوں میں فاعل کو مؤنث میں تبدیل کریں نیز ترجمہ کریں اور اعراب لگائیں:

**مثال:** خَرَجَ مُحَمَّدٌ مِنَ الْبَيْتِ - خَرَجَتْ أَمْنَةُ مِنَ الْبَيْتِ.

- ۱۔ ذَهَبَ الْمَدْرَسَ إِلَى الْفَصْلِ.  
 ۲۔ ذَهَبَ أَبِي إِلَى الْمَسْتَشْفَى.  
 ۳۔ جَلَسَ الطَّالِبُ فِي الْفَصْلِ.  
 ۴۔ خَرَجَ أَخِي مِنَ الْبَيْتِ.

5۔ ترجمہ کریں اور اعراب لگائیں:

- ۱۔ من الفتي الذي خرج من بيتك الآن؟ هو ابن عمي.  
 ۲۔ من الفتاة التي خرجت من بيتك الآن يا محمد؟ هي بنت خالتي.  
 ۳۔ لمن المفتاح الذي على المكتب؟ هو للمدرس.  
 ۴۔ لمن الساعة التي على السرير؟ هي لزوج اختي.

6۔ خالی جگہوں کو اسم موصول (الذی۔ الی) سے پُر کریں نیز ترجمہ کریں اور اعراب لگائیں:

- ۱۔ الكتاب..... على المكتب للمدرس.  
 ۲۔ القلم..... في حقيبتي مكسور.  
 ۳۔ السيارة..... خرجت من المستشفى الآن للطبيب الجديد.  
 ۴۔ الكلب..... في الحديقة مريض.  
 ۵۔ الفتى..... خرج من المسجد الآن ابن المؤذن.  
 ۶۔ تلك البطة..... تحت الشجرة لبنت الفلاح.  
 ۷۔ البيت الجديد..... في ذلك الشارع للوزير.  
 ۸۔ الدرس..... بعد هذا الدرس سهل جدًا.  
 ۹۔ من الفتاة..... جلست امام المدرسة؟ هي طالبة من ماليزيا.  
 ۱۰۔ اتلك الحقيبة..... تحت المكتسب لك يا خالد؟ لا، هي لصديقي محمد.

### شفاہی امتحان - Viva

- (1) درس 7 تا 12 میں سے کوئی سے دس جملوں کا عربی سے اردو میں ترجمہ مع قواعد۔  
 (2) درس 7 تا 12 میں سے کوئی سے دس جملوں کا اردو سے عربی میں ترجمہ مع قواعد۔  
 (3) درس 7 تا 12 میں سے قواعد۔